

13 فروری 2019

## برامپٹن میں فیملی ڈے 2019

برامپٹن، آن – فیملی ڈے ہماری کمیونٹی میں خاندانوں کی اہمیت کو مناتا ہے۔ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزاریں!

اس سال، فیملی ڈے بروز پیر، 18 فروری 2019 کو واقع ہو رہا ہے، لہذا، اس دن سٹی کی بہت سی خدمات دستیاب نہیں ہوں گی یا معمول سے کم کی سطح پر کام کریں گی۔

برامپٹن سٹی ہال فیملی ڈے پر بند رہے گا۔ شہری اس وقت کے دوران خود آ کر شادی کے لائسنس کے لیے درخواست دینے، عدالتی شادی کی تقریبات بک کرنے، غلط پارکنگ پر جرمانہ بھرنے یا پرمٹس کے لیے درخواست دینے یا کاروباری لائسنسز کی تجدید کروانے یا درخواست دینے کے قابل نہیں ہوں گے۔

کئی خدمات معمول کے مطابق کام کرنا جاری رکھیں گی، بشمول فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور سٹی آف برامپٹن ہائی لاء انفورسمنٹ۔

فیملی ڈے کی سرگرمیوں کی مزید مکمل فہرست کے لیے، برائے مہربانی 311 پر کال کریں یا [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

### برامپٹن ٹرانزٹ

برامپٹن ٹرانزٹ بروز پیر، 18 فروری کو سنڈے/ہالی ڈے سروس فراہم کرے گا۔ ہمارے ٹرمینلز پر کسٹمر سروس کاؤنٹرز بند رہیں گے۔

روٹ اور شیڈول کی معلومات کے لیے، 905.874.2999 پر کال کریں یا [www.bramptontransit.com](http://www.bramptontransit.com) ملاحظہ کریں۔ اگلی بس کے براہ راست اوقات کی معلومات کے لیے اپنے اسمارٹ فون یا دیگر موبائل ڈیوائس سے [nextride.brampton.ca](http://nextride.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔ سفر کی منصوبہ بندی کے دیگر ٹولز کے لیے [www.triplinx.ca](http://www.triplinx.ca) یا گوگل میپس پر جائیں۔

### برامپٹن ریکریٹیشن

بروز پیر، 18 فروری کو، پورے شہر میں تفریحی سنٹر پورے خاندان کے لطف اندوز ہونے کے لیے پرلطف تقریبات پیش کریں گے۔ رہائشیوں کو کارنیول گیمز کھیلنے، جیو کوچنگ کے لیے جانے، اسنو شو پہننے، اسکیٹنگ کرنے اور کئی دیگر مختلف سرگرمیوں میں حصہ لینے کی دعوت دی جاتی ہے۔

چنگواکوسی پارک، گور میڈوز کمیونٹی سینٹر اور گیج پارک کئی خاندان دوست سرگرمیوں کی میزبانی کریں گے۔ فیملی ڈے کی تقریبات میں ایک روزہ اسکی/اسنوبورڈ لیسنز، ٹیوبنگ، آگ کا الاؤ، کرافٹس، کوکی ڈیکوریٹنگ اور مزید کئی چیزیں شامل ہوں گی۔

برامپٹن میں کمیونٹی سنٹرز اور پارکس میں فیملی ڈے کے موقع پر پیش کی جانے والی سرگرمیوں کی مکمل فہرست کے لیے، [یہاں کلک کریں](#)۔ فیسوں کا اطلاق ہوسکتا ہے۔

فیملی ڈے کی چھٹی پر برامپٹن میں تفریحی سنٹرز کے اوقات کار [یہاں پائے جا سکتے ہیں](#)۔

**برامپٹن اینیمیل سروس**

برامپٹن اینیمیل شیلٹر بروز پیر، 18 فروری کو بند رہے گا۔ برامپٹن اینیمیل سروس کے متعلق مزید معلومات کے لیے، [یہاں کلک کریں](#)۔

**برامپٹن لائبریری**

برامپٹن لائبریری کی تمام شاخیں بروز پیر، 18 فروری کو بند رہیں گی۔ اپنے فیملی ڈے کے حصے طور پر، مویز اور موسیقی اسٹریم کر کے آزمائیں یا کوئی ای بُک پڑھیں۔ ہماری ڈیجیٹل مصنوعات، پروگراموں اور خدمات کے متعلق مزید معلومات کے لیے [www.bramptonlibrary.ca](http://www.bramptonlibrary.ca) ملاحظہ کریں یا 905.793.4636 پر کال کریں۔

-30-

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)